



بخيل و شخص ، جس ك سامنہ میرا ذکر کیا جائے اور و مجھ پر درود نہ بھیجے

حسین بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، و کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: "بخیل و شخص ، جس کے سامنہ میرا ذکر کیا جائے اور و مجھ پر درود نہ بھیجے" [صحیح]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بات سے خبردار کیا ہے کہ کسی کے سامنہ آپ کا نام، کنیت یا وصف آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے فرمایا: پورا کا پورا بخیل و شخص ، جس کے سامنہ میرا ذکر ہو اور و مجھ پر درود نہ بھیجے اس کی کئی وجوہات ہیں: 1- اس نے ایک ایسی چیز خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائی، جس میں ذرا بھی گھاٹا نہیں ہے اس میں مال خرچ ہوتا ہے اور نہ محنت لگتی ہے 2- اس نے خود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر درود بھیجنے کی فضیلت سے محروم رکھا اس نے آپ پر درود بھیجنے سے باز رہ کر ایک ایسے حق کی ادائیگی میں کنجوسی دکھائی، جو اس سلسلے میں وارد حکم کی تعمیل اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے ادا کرنا تھا 3- اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر درود بھیجنا ہمارے اوپر عائد آپ کے حقوق کی ادائیگی کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے کیوں کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں اللہ کی جانب بلايا، ہمارے پاس وحی اور ایک عظیم شریعت لے کر آئے لہذا آپ اللہ کے بعد ہماری ہدایت کے سبب ہیں چنانچہ آپ پر درود نہ بھیجنے والا خود اپنے نفس کے حق میں کنجوسی کرنے والا اور اپنے نبی کے ایک چھوٹے سے حق کی ادائیگی میں کنجوسی کرنے والا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5403>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

